

Amazigh Ramdane At Mansour

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^صفَامَسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^قوَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^صفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^قتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^جوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Berru, sin iberdan; tiririt, s lqanun; aserreê s lewqama. Ur awen iêell ara
a ppedmem kra, seg wayen i sent tefkam - siwa ma ugaden ur pqadaôen
ara tilas n Öebbi. Ma tugadem ur pqadaôen ara tilas n Öebbi, ulac u\$ilif
fellasen \$ef wayen is ara d tefdu iman is. D tigi ay d tilas n Öebbi, ur
tent zegret. Wid izegren tilas n Öebbi, widak, d imednas.